

الف۔ آپ کی فنانسنگ کی ضرورت:	
پروڈکٹ کا نام	HBL پرسنل لون
فنانس کی رقم	روپے _____
فنانسنگ کی مدت	_____ مہینے
مارک۔ آپ کی قسم (مقرر / متغیر)	مقرر
ب۔ اس فنانسنگ کی قیمتی لاگت	
مارک۔ آپ کی شرح (سالانہ)	_____ %
آپ کو اور کون سے چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	پروسیسنگ فیس: 5500 روپے یا 1.25% + فنانسنگ کی رقم کی FED جو بھی زیادہ ہو (دستاویزی چارجز، تصدیق اور اسٹیپ ڈیوٹی سمیت) نوٹ: شیڈول آف بینک چارجز (SOBC) کے مطابق۔ یہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین SOBC کے لئے، براہ مہربانی بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں
قابل ادائیگی ماہانہ قسط کیا ہوگی؟	روپے * = _____ فنانسنگ کی رقم + منافع (APR فنانسنگ کی شرائط) / فنانسنگ کی شرائط ("مہینوں میں") * یہ عارضی قیمت ہے اور اصل قیمت قرض کی منظوری کے وقت بتائی جائے گی
آپ کے کوئی قسط وصول کی جائے گی؟	روپے _____ ماہانہ ادائیگی کی جائے گی
	روپے _____ سالانہ ادائیگی کی جائے گا
	روپے _____
فنانسنگ کے لئے / آپ کُل کتنی رقم ادا کریں گے / گی؟	_____
ج۔ قبل از وقت ادائیگی:	
کیا آپ پیچرونی سے پہلے قرض / فنانس واپس کر سکتے / سکتی ہیں؟	ہاں
آپ پیچرونی سے پہلے قرض / فنانس کی ادائیگی کیسے کر سکتے / سکتی ہیں؟	HBL 24/7 کا ہیلپ لائن سینٹر 111-111-425 پر رابطہ کریں یا اپنی قرض HBL برانچ تشریف لائیں اور قبل از وقت اختتام کی تحریری درخواست جمع کرائیں۔ بھایا اصل رقم کا 7% + FED وصول کیا جائے گا اگر سرسری قبل از وقت ادائیگی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ نوٹ: جزدی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے
کیا آپ قرض / فنانس کی قبل از ادائیگی / قبل از ریٹائرمنٹ کے لئے اضافی رقم / چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	
د۔ ڈیفالٹ / تاخیر سے ادائیگی کی معلومات:	
آگر آپ اپنی ادائیگی کی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہتے / رہتی ہیں تو کیا ہوگا؟	آگر آپ کے پرسنل لون کی قسط مقررہ تاریخ کے اندر موصول نہیں ہوتی تو تاخیر سے ادائیگی کے چارجز لاگو ہوں گے۔ تاہم، منسوخی سے پہلے، کسٹمر کو اس سے متعلق نوٹس بھیجا جائے گا جس میں وجہ بتائی جائے گی اور مذکورہ نوٹس میں بیان کردہ مدت کے اندر قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ آپ کو مطلع کرنے کے لئے ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) eCIB میں منفی / زائد امیجا معلومات کی دوسری تاریخ شامل کرے گا (بشمول واجب الادا ادائیگیاں، تاخیر سے ادائیگیاں Write-off یا مارک۔ آپ کی تبدیلی وغیرہ)۔ لہذا، آپ کو شوروہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی قسطوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کے eCIB پر کسی بھی منفی معلومات کی اطلاع باعکاسی نہ ہو۔
وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر آپ سے کیا جرمانہ وصول کیا جائے گا؟	لیٹ فینس چارجز (LPC)
کیا آپ کی Set-off کا حق استعمال کر سکتا ہے؟	1,250 روپے + FED (فی ماہ)
	مقررہ چارجز
	بینک کو اس سہولت کو منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے اور اسے فنانسنگ اکاؤنٹس میں کسی بھی ہائیلیٹس کے مقابلے میں کنزیومر کے ڈپازٹ اکاؤنٹس میں کسی بھی کریڈٹ بیلنس کو Set-off کرنے کا حق حاصل ہے۔
د۔ دیگر مادی معلومات:	
قرض لینے والے / ادائیگی کی موت واقع ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟	موت واقع ہونے کی صورت میں، بھایا رقم بینک کے منظور شدہ پیئبل پرائیونٹس کمپنی کے ذریعے لوہی جائے گی۔
ضامن کی ذمہ داری کیا ہیں؟	N/A
آپ کو کیا دستاویزات فراہم کی جائیں گی؟	آفر لیٹر، پروڈکٹ Key Fact Sheet، شرائط و ضوابط، امور مائنٹیننس شیڈول، NOC (کسٹمر کی درخواست پر)
آپ معاہدہ اور مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے / سکتی ہیں؟	مزید معاہدہ کے لئے، براہ مہربانی ہماری 24/7 کلائنٹ سینٹر 111-111-425 پر رابطہ کریں، ای میل: customer.care@hbl.com، ہیلڈ آفس کا پتہ: 9th فلور، سرورس کوآپ، HBL پلازہ آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی۔

کسٹمرز کے دستخط اور تاریخ

مجاز ڈیپنر کے دستخط، اسامیہ اور تاریخ

میں / ہم بذریعہ ہذا اقرار اور توثیق کرتا ہوں / کرتے ہیں (a) HBL PersonalLoan کے زیر ماتحت Key Fact Sheet کی وصولی (جسے بعد میں "KFS" کہا جاتا ہے)؛ (b) KFS کو بغور پڑھا اور سمجھا گیا؛ (c) کہ KFS پر میری / ہماری جانب سے HBL PersonalLoan کے تحت شرائط و ضوابط کی قبولیت کے بعد دستخط کئے گئے ہیں۔

بینک چارجز شیڈول آف بینک چارجز کے مطابق ہوتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاتی ہیں۔